

رہنمائی

کرسمس کی مدت کے لئے رہنمائی

کرسمس کی مدت کے لئے رہنمائی،

29 نومبر 2020 کو شائع ہوا

آخری اپڈیٹ 19 دسمبر 2020 — [تمام اپڈیٹس دیکھیں](#)

منجانب:

[کنینٹ آفس](#)

لاگو ہوتا ہے:

انگلینڈ

فہرست

دوستوں اور اہل خانہ سے ملنا
بار، پیز او رستوران جانا
کلیساؤں او دیگر عبادت گاہوں میں جانا
دکانوں اور کرسمس مارکیٹوں میں جانا
پرفارمنس اور کرسمس لائٹنگ تقاریب سمیت ایونٹس میں شرکت
نیو آئیو یعنی نئے سال سے پہلی والی رات
کیرول گانا
کام پر جانا

چائلڈ کیئر
کیئر ہومز میں رشتہ داروں کی عیادت کرنا
برطانیہ میں سفر کرنا
رضاکارانہ خدمات
شادی بیاہ، سول پارٹنرشپ، اور تجہیز و تکفین

اس صفحے کو پرنٹ کریں
2 دسمبر سے، آپ کیلئے اپنے علاقے میں ٹیئر کی رہنمائی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کے علاقے میں کون سی پابندیاں عائد ہیں قواعد کہ آپ ٹیئر 4 میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، قوانین میں تبدیل کر دئے جائیں گے۔ جب ایک دفعہ وہ لاگو ہو جائیں گے تو آپ پر ان پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔

دوستوں اور اہل خانہ سے ملنا

25 دسمبر کو

اس کرسمس کو، محفوظ ترین راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہی اہل خانہ یا سپورٹ بیل کے ساتھ وقت گزاریں۔ 25 دسمبر کو آپ ایک [کرسمس بیل](#) بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ٹیئر 4 میں نہیں رہتے۔

ٹیئر 4 والے علاقوں میں، آپ پر کرسمس کی مدت کے دوران اپنے ٹیئر والے قوانین پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرسمس میں لوگوں سے انڈور یعنی عمارتوں کے اندر نہیں مل سکتے، سوائے اس کے کہ آپ عموماً انہی کے ساتھ رہتے ہوں، یا وہ آپ کے موجودہ سپورٹ بیل کا حصہ ہیں۔ باہر آپ دوسرے گھرانے کے کسی ایک فرد کے ساتھ ہی مل سکتے ہیں۔

کرسمس بیل والے کسی نجی گھر، عبادتگاہ یا باہر والی کسی عوامی جگہ پر مل سکتے ہیں۔ دوسری تمام سیٹنگز میں اگر آپ کرسمس کا بیل بناتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی [اس ٹیئر کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہئے جہاں آپ بس](#)۔

کرسمس کے بعد

26 دسمبر سے، آپ کیلئے اپنے علاقے میں ٹیئر کی رہنمائی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کرسمس کے بیلز کا مزید اطلاق نہیں ہوگا۔ UK میں اکثر جگہوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے گھرانوں کے ساتھ عمارتوں کے اندر نہیں مل سکتے، بشمول نیو ایئر ایو کے۔

جو لوگ کرسمس بیل بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور انہیں وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اپنے کرسمس بیل سے ملاقات کے بعد غیر ضروری سماجی میل جول میں کمی کرنی چاہئے۔

بار، پبز اور رستوران جانا

2 دسمبر سے، بار، پبز اور رستوراں میں آپ کس سے مل سکتے ہیں اس کے قواعد کا انحصار آپ کی ٹیئر پر ہوگا۔ انڈور اور آؤٹ ڈور مہمان نوازی کے مقامات کے لئے قواعد مختلف ہوسکتے ہیں۔ [اپنی ٹیئر کے قواعد یہاں چیک کریں](#)۔

25 دسمبر کو جن لوگوں سے آپ بار، پبز اور رستوراں میں مل سکتے ہیں اس بارے میں قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔

اگرچہ کام کے مقاصد سے متعلق استثنائات ہیں، مگر آپ کو کرسمس لنچ یا پارٹی میں کام نہیں کرنا چاہئے، جب یہ بنیادی طور پر ایک سماجی سرگرمی ہو اور بصورت دیگر آپ کے ٹیئر کے قواعد کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ہے۔

کلیساؤں او دیگر عبادت گاہوں میں جانا

2 دسمبر سے، آپ تمام ٹئیرز میں عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں میں آپ کس کس سے مل سکتے ہیں، اس کے بارے میں قواعد آپ کے ٹیئر پر منحصر ہوں گے۔ [اپنی ٹیئر کے قواعد یہاں چیک کریں۔](#)

25 دسمبر کو، آپ اپنے کرسمس بیل کے ممبران کے ساتھ عبادت گاہوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اگر آپ کرسمس بیل بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو محفوظ رویے کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیئے بشمول جہاں ممکن ہو مختلف گھرانوں کے افراد کے مابین فاصلہ برقرار رکھنا۔

اس وبائی مرض کے دوران عبادت گاہوں کے محفوظ استعمال کی رہنمائی میں مزید معلومات موجود ہیں۔

دکانوں اور کرسمس مارکیٹوں میں جانا

2 دسمبر سے آپ دکانوں میں کس سے مل سکتے ہیں اس کے قواعد کا انحصار آپ کی ٹیئر پر ہوگا۔ انڈور دکانوں اور کھلی دکانوں جیسے کرسمس مارکیٹ یا کرسمس ٹری مارکیٹوں کے لئے قواعد مختلف ہوسکتے ہیں۔ [اپنے ٹیئر کے قواعد کو چیک کریں۔](#)

سانٹا کے گروٹو تمام ٹئیرز میں کھل سکتے ہیں جب وہ ان مقامات میں واقع ہوں جن کے کھولنے کی ویسے بھی اجازت ہے۔ وینیوز کو مناسب [کوویڈ-محفوظ اقدامات](#) کا نفاذ کرنا چاہئے، بشمول سماجی فاصلہ۔

25 دسمبر کو جن لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں اس بارے میں قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو محفوظ رویے پر عمل کرتے رہنا چاہیئے بشمول اس کے کہ آپ جہاں کرسکتے ہوں وہاں آن لائن، ہجوم سے بچیں، اور اگر آپ بھیڑ والی جگہ پہ ہوں تو چہرے کو ڈھانپ لیں یعنی ماسک پہن لیں۔ آپ کو اپنے کرسمس بیل کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جانا چاہیئے۔

[رینمائٹی میں ان لوگوں کے لئے جو دکانوں، شاخوں، دکانوں یا اسی طرح کے ماحول میں کام کرتے ہیں یا چلاتے ہیں۔ مزید معلومات ہیں۔](#)

پرفارمنس اور کرسمس لائٹنگ کی تقاریب سمیت ایونٹس میں شرکت

2 دسمبر سے پرفارمنس اور کرسمس یا دیگر تہواری لائٹنگ کی تقریبات کے بشمول پروگراموں میں شرکت سے متعلق قواعد کا انحصار آپ کے ٹیئر پر ہوگا۔ انڈور اور آؤٹ ڈور مہمان نوازی کے مقامات کے لئے قواعد مختلف ہوسکتے ہیں۔ [اپنے ٹیئر کے قواعد کو چیک کریں۔](#)

25 دسمبر کو انڈور ایونٹس سے متعلق قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔

[رینمائٹی میں ان لوگوں کے لئے جو فنون لطیفہ میں کام کرتے ہیں، جن میں آرٹس کی تنظیمیں، ونیو آپریٹرز اور شرکاء شامل ہیں۔ مزید معلومات موجود ہیں۔](#)

نیو ایئر ایو یعنی نئے سال سے پہلی والی رات

آپ کہاں جا سکتے ہیں اور نیو ایئر ایو پر کس سے مل سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کو قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کے کرسمس بیل کا مزید اطلاق نہیں ہوگا۔ UK میں اکثر جگہوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے گھرانوں کے ساتھ عمارتوں کے اندر نہیں مل سکتے، بشمول نیو ایئر ایو کے۔ تین میں سے ایک شخص میں کروناوائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، اس لئے وہ اسے بغیر جانے پھیلا رہے ہوں گے۔ یہ امر لازم ہے کہ سب لوگ ان قوانین پر عمل پیرا ہوں۔

اگر آپ نے کرسمس بیل بنایا ہے تو اپنے کرسمس بیل سے ملاقات کے بعد آپ کو ان لوگوں سے اپنا رابطہ کم سے کم کرنا چاہئے جن کے ساتھ آپ نہیں رہتے۔ اس میں نیو ایئر ایو پر اپنے دوستوں اور گھرانے سے باہر والے رشتہ داروں کے ساتھ نہ ملنا شامل ہے، خواہ آپ ٹھیک ہی محسوس کر رہے ہوں۔

مہمان نوازی والے مقامات کو زیادہ سے زیادہ 23:00 بجے بند ہونا ضروری ہے۔
[اپنے ٹیئر کے قواعد کو چیک کریں](#)۔

کیرول گانا

کرنا وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں چھوٹے چھوٹے قطروں، ہوا میں موجود چھوٹے ذرات جنہیں ایروسولز کہتے ہیں، کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ براہ راست رابطے سے منتقل ہوسکتا ہے۔ گانا، چیخنا اور جسمانی سرگرمی چھوٹی بوندوں اور بخارچوں (ایروسول) کے ذریعے منتقلی کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ اگر ضرور گانا ہو تو منتقلی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اقدامات اٹھانے چاہئیں، جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کو کم سے کم حد تک محدود کرنا بھی شامل ہے۔ ایروسول ٹرانسمیشن کے مجموعی اثر کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ زیادہ شامل ہونگے اتنا منتقلی کا خطرہ زیادہ ہوگا۔

انڈور اور آؤٹ ڈور کیرول گانا یا کیرول سروسز ٹیئر 4 میں صرف عبادت کے ایک حصے کے طور پر ہی کیا جانا چاہیئے اور اس پر اس ٹیئر کی تعداد کی حدود لاگو رہیں گی۔

ٹیئر 4 والے علاقے کے باہر کیرول گانا یا کیرول سروس، تعداد کی حدود کے تابع انجام دی جاسکتی ہیں اگر تمام شرکاء [محوزہ محفوظ گائیکی کے اصولوں](#) کے مشورے اور پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے زیر انتظام ایک ماہر گروپ کی جانب سے تیار کردہ [پرفارمنگ آرٹس](#) کے لئے رہنمائی پر عمل کریں۔ یہ پیشہ ورانہ اور شوقیہ کوائیز دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔

وہ جو پرفارمنس یا مشق کرتے ہیں:

- پروفیشنل حیثیت میں؛ یا
- 18 سال سے کم عمروں کیلئے زیر نگرانی سرگرمی کے ایک حصے کے طور پر

تعداد میں محدود نہیں ہیں اور انہیں اجتماع سے متعلق حدود پر عمل پیرا نہیں ہونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ان کو [فنون لطیفہ کی رہنمائی](#) پر عمل کرنا چاہئے۔

بالغوں کے شوقیہ پرفارمنس اور مشقوں کے لئے، آپ کو اپنے علاقے میں صحت کے وسیع تناظر اور اپنے شرکاء کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، اسے کرنے (یا نہ کرنے) پر غور کرنا چاہئے، خاص طور پر اگر کمزور (ولنرایبل) افراد شامل ہوں۔

اگر آپ کرتے ہی ہیں تو آپ کو [فنون لطیفہ کی رہنمائی](#) کی تعمیل کرنی چاہئے اور آپ لوکل اتھارٹی کے اجتماع کی حدود کے تابع ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھ والے ایک سے زیادہ گروپ (ٹیئر 1 میں) یا گھرانے (ٹیئر 2، 3 یا 4 میں) پرفارم یا مشق کر رہے ہوں تو انہیں باہمی میل ملاپ، 'اختلاط' یا دوسرے کسی طور پر ایک ساتھ سماجی میل جول نہیں رکھنا چاہئے۔ آپ کو ہر وقت گروپوں یا گھرانوں کے مابین سماجی فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے، بشمول عمارت میں آمدورفت یا کسی وقفے کے دوران۔ سرگرمی کے دوران ڈائریکشن جاری رہ سکتی ہے یعنی کنڈکٹر اور گروپ کے درمیان، لیکن دیگر جسمانی اور سماجی تعامل ممنوع ہے۔

انڈور پرفارمنس

پیشہ ورانہ اور شوقیہ کوائیزز ہر ٹیئر کی پابندیوں کے مطابق، کسی بھی مجاز انڈور وینیو میں پرفارم کرسکتے ہیں اور انہیں مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کرنا چاہئے۔

انڈور پرفارمنس کے لئے صحت عامہ کے مشوروں کی بنیاد پر، سامعین یا اجتماع کو کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہئے جو ایروسول تشکیل دے سکے، جس میں گانا، چیخنا اور نعرے لگانا شامل ہے۔ زیادہ تعداد میں موجود لوگوں کو جگہ کے رقبے اور ہر وقت 2 میٹر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ضرورت کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ عام طور پر [پرفارمنگ آرٹس](#) کے لئے اس مشورے کی پیروی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر توجہ دی جانی چاہئے کہ

سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شرکاء کس طرح سائٹ پر محفوظ طریقے آمد و رفت کر سکتے ہیں۔

شرکاء کو ایونٹ تک پیدل یا سائیکل پر جانا چاہئے اور محفوظ سفر کے مشورے کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ یا اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ کار شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

آؤٹ ڈور پرفارمنس

پیشہ ورانہ اور شوقیہ کوائیزز بر ٹیئر کی پابندیوں کے مطابق، کسی بھی آؤٹ ڈور وینیو میں، جسے کھلنے کی اجازت ہو، پرفارم کرسکتے ہیں اور انہیں مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کرنا چاہئے۔

جب پرفارمنس کا انعقاد آؤٹ ڈور ہوتا ہے، سامعین یا اجتماع گائیڈی کے ساتھ شامل ہوسکتے ہیں اور انہیں فنون لطیفہ کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین یا اجتماع کے ممبران کو 2 میٹر کی سماجی دوری پر عمل کرنا چاہئے اور تقریب کے منتظمین کو اسے برقرار رکھنے کو یقینی بنانا چاہئے۔ جہاں بھی ممکن ہو شرکاء کو بیٹھے رہنا چاہئے۔ زیادہ تعداد میں موجود لوگوں کو آؤٹ ڈور جگہ کے رقبے اور ہر وقت 2 میٹر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ضرورت کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ خاص طور پر توجہ دی جانی چاہئے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شرکاء کس طرح سائٹ پر محفوظ طریقے آمد و رفت کر سکتے ہیں۔

ڈور ٹو ڈور کیروول گانا ٹیئر 1 سے 3 تک ایسے گروپ (گروپوں) میں ہوسکتا ہے جس میں شرکاء کی تعداد چھ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر مجموعی طور پر چھ سے زیادہ افراد موجود ہوں تو ہر ایک 'گروپ' کو تعامل، 'اختلاط' یا بصورت دیگر سماجی میل جول نہیں کرنا چاہئے۔ ٹیئر 4 میں گویے دو شرکاء سے زیادہ کے گروپ (گروپوں) میں نہیں ہو سکتے، سوائے اس کے کہ ان کا تعلق ایک ہی گھرانے یا سپورٹ بیل سے ہو۔ شرکاء کو صحت عامہ کے مشوروں پر عمل کرنا چاہئے، بشمول یہ یقینی بنانا کہ آپ جس کے ساتھ نہیں رہتے اس سے کم سے کم 2 میٹر کی دوری اور کسی بھی مکان کی حدود کو برقرار رکھیں۔

شرکاء کو ایونٹ تک پیدل یا سائیکل پر جانا چاہئے اور محفوظ سفر کے مشورے کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ یا اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ کار شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

مزید معلومات کیلئے فنون لطیفہ کی رہنمائی اور ویائی مرض کے دوران عبادت گاہوں کے محفوظ استعمال کی رہنمائی سے رجوع کریں۔

کام پر جانا

اگر آپ اس عرصے کے دوران کام کر رہے ہیں تو آپ کو گھر سے یہ کام جاری رکھنا چاہئے جہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔

چائلڈ کیئر

کرسمس کے عرصے میں ، مقامی پابندیاں اور استثنائت برقرار ہیں۔ لہذا، رجسٹرڈ چائلڈ کیئر، بچوں کے لئے دیگر زیر نگرانی سرگرمیوں اور چائلڈ کیئر ببلز کی اجازت ہے۔ اگر آپ کے چائلڈ کیئر کا بیل آپ کے کرسمس بیل کا حصہ ہے تو وہ ایک الگ گھرانہ تصور ہوگا، پس آپ 25 دسمبر کو صرف ایک اور گھرانے کے ساتھ ہی شامل ہو سکتے ہیں۔

کیئر ہومز میں رشتہ داروں کی عیادت کرنا

تمام ٹئیرز میں آپ کیئر ہومز میں رشتہ داروں سے ملنے جا سکتے ہیں، بجز اس کے کہ کیئر ہوم میں وباء پھوٹ پڑی ہو۔ تیز رفتار (لیٹرل فلو) ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ کیئر ہومز کو فراہم کئے گئے ہیں، کرسمس تک ہر ہفتے دو ملاقاتیوں تک وہاں کے رہائشی افراد سے ملنے آسکتے ہیں۔ اگر کسی ویزٹر کا ٹیسٹ منفی آتا ہے، اور اس نے مناسب PPE پہنی ہوئی ہو، اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے والے دوسری تدابیر پر عمل کر رہا ہو، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپنے

پیابوں کے ساتھ محدود جسمانی ربط رکھ سکیں، جس طرح کہ پرسنل کیئر یعنی ذاتی نگہداشت مہیا کرنا، ہاتھ پکڑنا اور گلے لگانا۔

باہر یا دوسرے کوویڈ- محفوظ وزٹنگ علاقوں میں بھی وزٹس سماجی فاصلے اور پی پی ای کی موجودگی میں کی جا سکتی ہیں۔

[Access guidance on visiting care homes during COVID-19](#)

برطانیہ میں سفر کرنا

2 دسمبر سے آپ کے ٹیئر سے باہر سفر کرنے کی ایڈوائس، بشمول رات کے قیام کے، آپ کے ٹیئر پر منحصر ہوگا۔ [اپنے ٹیئر کے قواعد کو چیک کریں](#)۔

اگر 25 دسمبر کو آپ کو کرسمس بیل میں شامل ہونے کی اجازت ہو، تو آپ کو ان سے ملنے کے لئے سفر کے خطرات کے بارے میں انتہائی غوروفکر سے کام لینا چاہیئے۔ اگر آپ ایک انتہائی درجے کے پھیلاؤ والے علاقے میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر، انگلینڈ میں ٹیئر 3، تو آپ کو کمتر پھیلاؤ والی جگہوں میں جہاں ممکن ہو سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو، تو پہلے سے بکنگ کر لیں تاکہ آپ اور دوسرے محفوظ طور پر سفر کرنے کے قابل ہوں اور اپنی روانگی او واپسی کے سفر احتیاط سے پلان کرنے کے قابل ہوں۔ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہی آپ کو وہاں کے ٹیئر کے اصولوں پر عمل کرنا چاہئے، ادھر اس جگہ میں ہی رہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس علاقے میں غیرضروری سفر سے گریز کریں۔

اگر آپ اسکاٹ لینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سفر سے قبل [اسکاٹ لینڈ](#)، [ویلز](#) یا [شمالی آئرلینڈ](#) سے متعلق رہنمائی پڑھیں۔

آپ اپنے کرسمس بیل میں دوسرے گھرانوں سے غیر معمولی حالات کے علاوہ (مثال کے طور پر، سفر کے دوران کوئی نامعلوم خلل آجائے، یا آپ کے کرسمس بیل کی کسی فرد میں COVID-19 کی علامات ظاہر ہو جائیں اور آپ کو خود ساختہ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے) 25 دسمبر سے پہلے یا اس کے

بعد نہیں مل سکتے (سوائے اس کے کہ آپ کے ٹیئر کے قواعد اجازت دیتے ہوں)۔ اس میں شمالی آئرلینڈ سے اور وہاں کا سفر کرنے والے سب شامل ہیں۔ آمدورفت کے راستے معمول سے زیادہ مصروف ہوسکتے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ:

- آگے کا منصوبہ بنائیں، جانے سے پہلے خلل کو چیک کریں، اور مصروف ترین اوقات کے ساتھ ساتھ مصروف ترین راستوں سے بھی بچیں
- سفر کے دوران غیر ضروری اسٹاپ کرنے سے گریز کریں
- جہاں ممکن ہو، ان لوگوں کے ساتھ گاڑی شیئر کرنے سے گریز کریں جو آپ کے اہل خانہ یا کرسمس بیل میں شامل نہیں ہیں
- جہاں بھی ممکن ہو تو سفر کرتے وقت دوسرے لوگوں سے اپنا فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے
- اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں یا سینسٹائز کریں
- انگلینڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں چہرے کو ڈھانپ لیں سوائے اس کے کہ آپ مستثنیٰ ہوں

اگر ضروری ہوا، تو آپ اپنے ٹیئر کے قواعد کے مطابق انگلینڈ میں ہوٹلوں، ہاسٹل یا بی اینڈ بی میں قیام کرسکتے ہیں۔ اس میں 24 اور 26 دسمبر کے درمیان ٹیئر 3 والے علاقے بھی شامل ہیں، جب تک کہ آپ اکیلے یا اپنے اہل خانہ یا سپورٹ بیل کے دوسرے اراکین کے ساتھ قیام کر رہے ہوں۔ آپ کو کسی ہوٹل، ہاسٹل یا بی اینڈ بی میں کرسمس کے بیل کی حیثیت سے اکٹھا نہیں ہونا چاہئے الا یہ کہ آپ کے بیل کا ایک رکن مستقل طور پر وہاں رہتا ہو۔

اگر ضروری ہو، آپ نجی کرائے والی رہائش گاہ میں جیسے مختصر مدت کے ہالڈے لیٹس میں اپنے اہل خانہ یا کرسمس بیل کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔

اگر آپ کو اپنے کرسمس بیل کے ساتھ سفر کرنے کی ضرورت ہو تو آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کو [محفوظ سفر کی رہنمائی](#) پر عمل کرنا چاہئے۔

بیرون ملک سفر

2 دسمبر سے آپ بیرون ملک سفر کرسکتے ہیں، بشمول دوستوں اور اہل خانہ کیساتھ ملاقات کے، آپ اپنی منزل پر لاگو پابندیوں کے تابع ہونگے۔ ٹیئر 3 میں رہنے والوں کو اپنے ٹیئر سے روانہ ہونے سے گریز کرنا چاہئے، ماسوائے کام، تعلیم یا کیئرنگ کی ذمہ داریوں کے۔ سفر کرنے سے پہلے آپ کو متعلقہ [سفر کے مشورے](#) کو چیک کرنا چاہئے۔

بیرون ملک سے یو کے کا سفر [ٹریول کوریڈور](#) کے ماتحت جاری رہے گا۔ وہ لوگ جو نان ٹریول کوریڈور والے ملک یا علاقے سے آرہے ہیں یا وہاں سے سفر کیا ہے ان کو 10 دن کے لئے خود ساختہ علیحدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو ممالک حکومت کی [ٹریول کوریڈور لسٹ](#) میں شامل نہیں ہیں 15 دسمبر 2020 سے وہاں سے انگلینڈ آنے والے مسافروں کو 5 دن کی خود ساختہ علیحدگی کے بعد ٹیسٹ کروانے کا اختیار حاصل ہوگا، جن کا منفی نتیجہ آئے انہیں خود ساختہ علیحدگی کی ضرورت نہیں رہے گی۔

آپ کرسمس بیل میں شامل نہیں ہوسکتے جب تک آپ نے 10 دن کی اپنی خود ساختہ علیحدگی پوری نہ کی ہو، یا 5 دن کی اگر آپ کا ٹیسٹ منفی آیا ہو۔ اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامات ہیں یا آپ خود ساختہ علیحدگی میں ہیں تو آپ کو [کرسمس کا ہیلو](#) نہیں بنانا چاہئے۔

25 دسمبر کو بین الاقوامی سفر سے متعلق قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔

رضاکارانہ خدمات

کرسمس کے عرصے میں رضاکار افراد لوگوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور آپ ہر ٹیئر میں ایسا کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

جہاں ممکن ہو رضاکارانہ طور پر کام آپ کو گھر سے کرنا چاہئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرسکتے تو آپ اپنے گھر سے باہر رضاکارانہ طور پر کام کرسکتے ہیں۔ آپ کو [محفوظ مدد کرنے](#) سے متعلق مشورے پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ اگر آپ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو آپ کو [سماجی فاصلے کی رہنمائی](#) کی پیروی کرنی ہوگی۔ تین میں سے ایک شخص میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر

نہیں ہوتیں، اس لئے وہ اسے بغیر جانے پھیلا رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس مشورے پر عمل نہیں کرتے تو ، آپ اپنے لئے انفیکشن کا خطرہ پیدا کرسکتے ہیں یا اسے دوسروں تک پھیلا کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کام کی جگہ میں رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہوں، تو انہیں کرونا وائرس کے حفاظتی معیاروں کے مطابق ہونا چاہیئے۔

رضاکارانہ خدمات کے طریقوں بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔

شادی بیاہ، سول پارٹنرشپ، اور تجہیز و تکفین

2 دسمبر سے شادی بیاہ، سول پارٹنرشپ اور جنازوں سے متعلق قواعد کا انحصار آپ کے ٹیئر پر ہوگا۔ اپنے ٹیئر کے قواعد کو چیک کریں۔

25 دسمبر کو، شادی بیاہ، سول پارٹنرشپ، اور تجہیز و تکفین سے متعلق قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔